



Reading Voice

Your local advice & advocacy hub

ریڈنگ وائس کا نظم و نسق مقامی خیراتی ادارہ
بیلٹھ واچ ریڈنگ کرتا ہے:

healthwatch
Reading

3rd Floor
Reading Central Library
Abbey Square
Reading RG1 3BQ

چیریٹی نمبر:
1151346

ریڈنگ وائس کی خدمات
مقامی خیراتی اداروں کے
اشتراک میں فراہم کی
جاتی ہیں:



آپ کے ساتھ کام کرنا

- ہماری خدمت مفت ہے
- ہم کوشش کر کے انہی وقتوں میں آپ سے ملاقات کریں گے جو آپ کے لیے مناسب ہو
- ہم اہل خانہ کے کسی فرد یا احباب سے آپ کی نگہداشت کے بارے میں بات کرنے کے لیے آپ کی اجازت حاصل کریں گے
- ہم جانچ کریں گے کہ آپ ہمیں اپنے سماجی کارکن کے ساتھ کن باتوں کو شیئر کرنے کی بخوشی اجازت دیتے ہیں
- آپ ہمیں جو کچھ بتائیں گے ہم انہیں محفوظ اور خفیہ رکھیں گے سوائے اس کے کہ آپ یا کسی اور شخص کو ضرر پہنچنے کا اندیشہ ہو یا ہمارے لیے کسی جرم کی اطلاع دینا لازمی ہو
- ہم اس بات کو یقینی بنانے کے لیے سخت کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ منصفانہ برتاؤ کیا جائے اور ان کے ساتھ امتیاز نہ برتا جائے
- ہم خصوصی ایڈوکیسی ٹریننگ لیتے ہیں
- ہم اس بات کو یقینی بنانے کے لیے پس منظر کی معلومات حاصل کرتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کام میں محفوظ ہیں۔



کیئر ایکٹ ایڈوکیسی

کمزور بالغ افراد کی اپنی بات کہنے
میں مدد کرتی ہے

کوئی ریفرل کس طرح دیں

سماجی کارکنان ریڈنگ وائس ایڈوکیسی ہب کو
0118 937 2295 پر فون کر کے اہل لوگوں کے لیے وکلاء
کی درخواست کر سکتے ہیں۔

عوام اور پیشہ وران اہلیت اور وکالتی خدمت کے بارے میں
مزید معلومات www.readingvoice.org.uk پر حاصل
کر سکتے ہیں۔

ہم آپ کو جو معاونت فراہم کرتے ہیں اسے
رسمی طور پر 'کیئر ایکٹ کے تحت وکالت'
کہا جاتا ہے۔ کیئر ایکٹ ایک نیا قانون ہے
جو کہ لوگوں کو حقوق عطا کرتا ہے۔ ان
حقوق میں سے ایک حق اپنی بات کہنے
کے لیے اضافی مدد کی ضرورت ہونے کی
صورت میں ایک وکیل حاصل کرنا ہے جبکہ
اس کام کو انجام دینے میں مدد کے لیے اس
پاس یا مناسب کوئی شخص موجود نہ ہو۔

وکلاء درج ذیل کے بارے میں اپنی بات کہنے میں آپ کی مدد کریں گے ...

کیئر ایکٹ کے وکلاء کے بارے میں



احباب اور اہل خانہ



آپ کس طرح ترسیل کرتے ہیں



آپ کہاں رہتے ہیں



آپ دوسروں کا خیال کس طرح رکھتے ہیں



محفوظ رہنا



روزانہ کی مدد



وہ سرگرمیاں جن سے آپ لطف اندوز ہوتے ہیں



آپ کی صحت



آپ کی ثقافت اور عقائد



وکلاء:

- آپ کے ساتھ وقت گزاریں گے
- آپ کو معلومات بہم پہنچائیں گے
- اپنے خود کے فیصلے کرنے میں آپ کی حوصلہ افزائی کریں گے
- اپنے سوشل ورکر کو یہ بتانے میں مدد کریں گے کہ آپ کون سی نگہداشت چاہتے ہیں یا آپ کو کیسی نگہداشت کی ضرورت ہے
- آپ کے حقوق کے بارے میں معلوم کریں گے
- آپ کے لیے آواز اٹھائیں گے اگر آپ اس پر قادر نہیں ہیں